#### **REVISED**

#### Punjab Education, Curriculum, Training & Assessment Authority

### Smart Syllabus / Accelerated Learning Program (ALP) for Biology-9 (Academic Session 2025-26)

Note: All types of questions for BISE Examination paper will be prepared from the entire content of the textbook other than those topics and questions which have been excluded / deleted in the Smart Syllabus (ALP) for Biology-9 (Session 2025-26).

To ensure timely curriculum completion and effective learning within the educational calendar of the 2025-26 academic session, selected topics of Biology-9 have been deleted under the Smart Syllabus / Accelerated Learning Program (ALP).

This adjustment has been made carefully to prevent any learning loss, content overlap, or conceptual gap for students. The modified scheme retains all core concepts required for progression to higher grades, while maintaining curriculum coherence across science subjects.

Chapter No. / Name	Deleted Topics	Page No.
1	• 1.2 Relation of Biology with other sciences	8-10
The Science of Biology	• 1.3 Careers in Biology	10-12
Bielegy	• 1.5 Science as a collaborative field	13-14
	• 1.8 Malaria- An example of Biological Method	17-20
	Key Points	21-22
	• MCQ No. 9 &10	23
	• Short answers No. 3 & 5	23
	• Long questions No. 1-3 & 6-7	24
	Inquisitive questions all	24
2 Biodiversity	Advantages of classification	27
Biodiversity	• Table	28
	<ul> <li>History of classification</li> </ul>	29
	• Table	31
	• Table	35
	• Box	36
	Key Points	38
	• MCQ No. 8-10	39
	• Short answers no.1,2 &4	40
	• Long questions no. 1&2	40
	• Inquisitive questions all	40

		T
3 The Cell	Side box and Table	52
The Cen	• Table	53
	• 3.3 Structural Advantages of Plant and Animal Cells	53-54
	Division of Labour within and across cells	56-57
	Key Points	59
	• MCQ No. 4, 11 & 14	60-61
	• Short answers No. 4, 10 & 14	61
	• Long questions No. 8 & 9	62
	Inquisitive questions all	62
4 Cell Cycle	• Box	65
Cell Cycle	4.4 Comparison between Meiosis and Mitosis	73-75
	Key Points	76
	• MCQ No. 3 & 8	77
	• Short answers No. 8 & 10	78
	• Long questions No. 2	78
	Inquisitive questions all	78
5	Emergent Properties	81-82
Tissues, Organs	Role of Organ System in Homeostasis	89
And Organ System	Key Points	90
	• MCQ No. 1, 3 & 7	90-91
	• Short answers No. 5 & 7	92
	• Long questions No. 6, 9 & 10	92
	Inquisitive questions all	92
6	Key Points	105-106
Biomolecules	• MCQ No. 1 & 8	106-107
	• Short answers No. 1 & 4	108
· ·	• Long questions No. 6	108
	Inquisitive questions all	108
7	Key Points	116
Enzymes	• MCQ No. 1 & 4	117
	• Short answers No. 2 & 5	118
	• Long questions No. 4	118
	Inquisitive questions all	118

8 Bioenergetics	• Use of Respiratory energy in Body	128
Dioenergenes	• Table	128
	• Table	129
	• Figure 8.8	129
	Key Points	130
	• MCQ No. 3 & 9	131
	• Short answers No. 3, 7, 8, 9 & <b>13</b> (Revised)	132
	• Long questions No. 3 & 6	132
	• Inquisitive questions all	132
9	Roles of Nitrogen and Magnesium	135
Plant Physiology	Key Points	148
	• MCQ No. 4 & 7	149
	• Short answers No. 1 & 3	150
	• Long questions No. 3 & 8	150
	Inquisitive questions all	150
10	Key Points	163
Reproduction in Plants	• MCQ No. 4 & 10	164
	• Short answers No. 3 & 10	165-166
	Inquisitive questions all	166
11 Biostatistics	Entire chapter is deleted.	167-175
Glossary	Completely deleted.	176-180

### PUNJAB EDUCATION, CURRICULUM, TRAINING AND ASSESSMENT AUTHORITY

### Pairing Scheme / Instructions for Preparation of Exam Paper of Biology for Grade-9 (REVISED)

The paper of Biology for Grade-9 will consist of 60 marks.

Objective Type = 12 + Subjective Type = 48 marks.

Timing of the paper will be 2 hours.

(Objective Type = 15 minutes + Subjective Type = 1:45 hours)

The paper will be made as per following details:

#### **Objective Type**

Q.1: MULTIPLE	CHOICE QUESTIONS	12 Marks (1 mark eac	h)
Chapter # 1		1 MCQ	
Chapter # 2		1 MCQ	
Chapter # 3		1 MCQ	
Chapter # 4		1 MCQ	
Chapter # 5		1 MCQ	
Chapter # 6		1 MCQ	
Chapter # 7		1 MCQ	
Chapter # 8		1 MCQ	
Chapter # 9		2 MCQs	
Chapter # 10	Y CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	2 MCQs	

## Subjective Type

SH	$\cap$	T	$\cap$	JEST		NC
ЭΠ	ОΓ	( I	WU	EOI	IUI	NO

SHOKI QUES	IONS	
Question #2:	(Attempt Any 5 Questions)	2 × 5 = 10
Chapter # 1	Short Questions: 4	
Chapter # 2	Short Questions: 2	
Chapter # 3	Short Questions: 2	The Paris
Question #3:	(Attempt Any 5 Questions)	2 × 5 = 10
Chapter # 4	Short Questions: 2	
Chapter # 5	Short Questions: 2	
Chapter # 6	Short Questions: 2	
Chapter # 10	Short Questions: 2	
Question #4:	(Attempt Any 5 Questions)	$2 \times 5 = 10$
Chapter # 7	Short Questions: 2	
Chapter # 8	Short Questions: 3	
Chapter # 9	Short Questions: 3	
<b>LONG QUESTI</b>	ONS	

Q#5	(a) Chapter 2	5 marks
	(b) Chapter 3	4 marks
Q#6	(a) Chapter 6	5 marks
	(b) Chapter 7	4 marks
Q#7	(a) Chapter 9	5 marks
	(b) Chapter 10	4 marks

#### **REVISED**

# MODEL PAPER OF BIOLOGY FOR CLASS-9 Objective Type

Time	allo	wed: 15 Min.				Max. Marks:	12
بین کی سیاہی	لومار کریا پا	، اس سوال کے سامنے والے دائرے <sup>ک</sup>	میں درست ہے:	بے خیال	Cاور D دیے گئے ہیں۔جوامتخاب آپ	ہر سوال کے چار مکنہ جوابات B، B، B،	نوك:
			ر ہو گا۔	ب غلط تصوّ	کو کاٹنے یا بھرنے کی صورت میں جوار	ے بھریں۔ دویا دوسے زیادہ دائروں	
Note	you	u think is correct, f	ill that ci	rcle v	vith marker or pen	e given. The choice we ink in the answer-lenark in that question	oook
						لثوز کاخورد بنی مطالعه کہلا تاہے:	(i)
(i)	The	microscopic study	of tissues	is call	led:		
	(a)	Physiology	فزيالوجى	(b)	Histology	ىبىدۇلوجى	
	(c)	Cytology	سائيبولوجي	(d)	Molecular Biology	مالىكيو لربيالو جى	
			7.		باہے:	ٹیکسانومی ں کاس <mark>ب سے</mark> اعلیٰ درجہ کون	(ii)
(ii)	The	highest taxonomic	rank is:				
	(a)	Domain	ڈو مین	(b)	Kingdom	كنگذم	
	(c)	Phylum	فالنيكم	(d)	Class	كلاس	
					س جاندار میں پائی جاتی ہے:	پیپٹائیڈ و گلا <sup>ئیکد</sup> ین <mark>سے</mark> بنی سیل وال	(iii)
(iii)	Pep	tidoglycan is found	in the cel	l wall	of which organism:		
	(a)	Bacteria	بيكثيريا	(b)	Fungi	فخائي	
4	(c)	Plants	پودے	(d)	Animals	جانور	
					تى ہے:	سینتھیسز فیز کے بعد کون سی فیز آ	(iv)
(iv)	Wh	ich phase comes aft	er synthes	sis			
	(a)	G0 phase	G0 فير	(b)	G2 phase	<b>ب</b> ن G2	
	(c)	G1 phase	<b>ن</b> رُ G1	(d)	M phase	M فير	
						کونساٹشو حرکت میں مد د دیتاہے:	(v)
(v)	Wh	ich tissue enables m	ovement				
	(a)	Muscle Tissue	مسل ٹشو	(b)	Epithelial Tissue	اہیی تھیلیل کشو	
	(c)	Epidermal Tissue	ابپی ڈر مل ٹشو	(d)	Vascular Tissue	ا ہی تھیلیل ٹشو واسکو لر ٹشور	

(vi)	Storage polysaccharide found in plants is:						
	(a)	Starch &	(b) سٹا	Cellulose	سلولوز		
	(c)	تکیو جن Glycogen	(d) گلا	Chitin	كائكڻ		
				یں پائے جانے والے انزائمز کا آپیٹیم درجہ حرارت کیاہے؟	(vii) انسان ب		
(vii)	The	optimum temperature for	most of	f the human enzymes is:			
	(a)	36°C	(b)	37°C			
	(c)	38°C	(d)	39°C			
				ری ایکشنز کہاں و قوع پذیر ہوتے ہیں؟	(viii) ڈارک		
(viii)	The	site of dark reactions:	14				
	(a)	Outer membrane of chlor	oplast	کلوروپلاسٹ کی بیرونی جھلی میں			
	(b)	Cristae of mitochondria	A	مانمیٹو کانڈریا کی کرسٹی میں			
	(c)	Stroma of chloroplast		کلوروپلاسٹ کے سٹر وہامیں			
	(d)	Matrix of mitochondria		کلوروپلاسٹ کی بیرونی جملی میں مائیٹو کانڈریا کی کرسٹی ٹیس کلوروپلاسٹ کے سٹر ومامیں مائیٹو کانڈریا کے میٹر کس میں			
			9	ر ذی <u>ل میں سے</u> کونسا بے جوڑ ہے:	(ix) مندرج		
(ix)	Whi	ch of the following is mism	atched:				
	(a)	Carbon-Hydrogen		کار بن-ہائیڈر و <sup>ج</sup> ن پوٹاشیم-ناکٹر و <sup>ج</sup> ن			
	(b)	Potassium - Nitrogen		پوڻاشيم-نا <i>ئ</i> ڻروجن			
	(c)	Zinc - Chlorine	3	ز نک-کلورین			
4	(d)	Sulphur – Nickel		سلفر - نکل			
				ل ٹرانسپائریشن کی رفتار کو کم کر تاہے؟	(x) کونساعا <sup>م</sup>		
(x)	Whi	ch factor causes a decrease	in the	rate of transpiration?			
	(a)	Wind		150			
	(b)	Increase in temperature		درجه حرار <b>ت می</b> ں اضافیہ			
	(c)	Higher humidity		اونچے درجہ کی نمی پیتے کازیادہ سطی رقبہ			
	(d)	More surface area of leave	es	چ <sup>ے</sup> کازیادہ سطی رقبہ			

(xi)	An e	example of Tuber is:					
	(a)	Potato	آلو	(b)	Ginger	اورک	
	(c)	Onion	پياز	(d)	Garlic	لهبن	
						ایمبر یوسیک س میں بتاہے؟	(xii)
(xii)	Emb	oryo sac is formed in	side:				
	(a)	Anther	اينتهر	(b)	Style	سٹائل	
	(c)	Filament	فيلامينك	(d)	Ovule	او د بیول	
			ubjecti	ive 1	Гуре (Par		
		wed: 1.45 Hrs.	any fiv	(05)	questions	Max. Marks:	
Q. Z.	VVIIL	e short answers to	ally live	e (US)		كوئى سے پانچ (5) سوالات كے مختر جوابات كھيے	(4)
				M		پیتھالو جی کی تعریف کھیں اور اس کی اہمیت بتا <sup>؟</sup>	(i)
(i)	Defir	ne Pathology. Give its	s importa	nce.			
		3,				معیاری مشاہدا <mark>ت کیا</mark> ہوتی ہیں۔مثال دیں۔	(ii)
(ii)	What	t <mark>are qualitative obse</mark>	ervations	? Give			
<b>/</b> ***\				9 1		سائنفک میتشد <mark>ٔ مین</mark> مشاہدات اور تجربات کا کر ہ	(iii)
(iii)	Ment	tion role of observat	io <b>n a</b> nd e	xperii	mentation in 1	the scientific method.	(iv)
(iv)	Diffe	rentiate between Mo	rphology	v and	Physiology	مار فولو جی اور فزیالو جی میں فرق بیان کریں۔	(,
( )	5			y dire	injoiology.	بائیوڈائیورٹی کے دواہم نکات لکھیں۔	(v)
(v)	Write	e the importance of	Biodiversi	ity.			
4			3		لريں۔	رابرٹ وٹیکر کے 5 کنگڈم سٹم کی اثاث تحریر	(vi)
(vi)	Give	the basis of Five Kin	gdom cla	ssifica	,		(vii)
(vii)	Com	nara sampasition of	primarı.	م الميد		پرائمر ی اور سیکنڈری سیل وال کی ساخت کاموا الحدید	(vii)
(11)	Com	pare composition of	primary	wali a		wall. لاکسوسومز کیسے وجو د میں آتے ہیں نیز ان کا فعل	(viii)
(viii)	Write	e origin and function	s of Lyso	some	• •	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Q. 3:		e short answers to	=				
					:	کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مخضر جوابات لکھیے	(3)
						فريگوپلاسٹ كياہے۔اس كافعل لكھيں۔	(i)
(i)	Wha	at is phragmoplast?	Give its fu	ınctio	n.		
						ٹیومر کیے کہتے ہیں اس کی اقسام بیان کریں۔	(ii)

(ii) What is tumor? Write their types.

(xi) ٹیوبر کی مثال ہے۔

(iii) Define organ system. Give examples from animals.  (iv) Compare the functions of root system and shoot system in plants.  (v) Compare the functions of root system and shoot system in plants.  (v) Draw structures of two common pentoses.  (vi) What is dietary fibre? How is it helpful to humans?  (vii) What is dietary fibre? How is it helpful to humans?  (viii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Compare bulb with corm.  Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) Differentiate between catabolism and anabolism.  (iii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (iv) How alcohol is formed write its equation.  (vi) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Draw the molecular structure of ATP.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules  (viii) Compare the functions of the plant		آر گن سسٹم سے کیامر اد ہے۔ جانوروں میں اس کی مثال دیں۔	(iii)
(iv) Compare the functions of root system and shoot system in plants.  (v) Draw structures of two common pentoses.  (v) Draw structures of two common pentoses.  (vi) What is dietary fibre? How is it helpful to humans?  (vii) What is dietary fibre? How is it helpful to humans?  (viii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Compare bulb with corm.  Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (viii) Differentiate between catabolism and anabolism.  (i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vi) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	(iii)	Define organ system. Give examples from animals.	
ر کی این بر گراوی کی این بر کرار کا است کی اور است کا کا کا است کا است کا است کا کا کار کا			(iv)
ر کی این بر گراوی کی این بر کرار کا است کی اور است کا کا کا است کا است کا است کا کا کار کا	(iv)	- '	
(vi) What is dietary fibre? How is it helpful to humans?  (vii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Compare bulb with corm.  Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) Differentiate between catabolism and anabolism.  (iii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules			(v)
(vi) What is dietary fibre? How is it helpful to humans?  (vii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Compare bulb with corm.  Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) Differentiate between catabolism and anabolism.  (iii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	(v)	Draw structures of two common pentoses.	
(vii) What is dietary fibre? How is it helpful to humans?  العلى المن المن المن المن المن المن المن المن		•	(vi)
(vii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Compare bulb with corm.  Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) Differentiate between catabolism and anabolism.  (iii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (v) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vi) Draw the molecular structure of ATP.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	(vi)	• • •	
(viii) Define double fertilization. Give its outcome.  (viii) Compare bulb with corm.  Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iii) Define cellular respiration. Give its equation.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vi) Draw the molecular structure of ATP.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  (viii) Note: Attempt any two questions.  (viiii) Note: Attempt any two questions.  (viiii) Note: Attempt any two questions.  (viiii) Note: Attempt any two questions.	, ,	7	(vii)
(viii) Compare bulb with corm.  Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  (viii) Note: Attempt any two questions.  (viiii) Note: Attempt any two questions.  (viiii) Note: Attempt any two questions.  (viiii) Note: Attempt any two questions.	(vii)	• /	
(viii) Compare bulb with corm.  Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (8)  (9)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (2)  (1)  (2)  (3)  (3)  (4)  (4)  (4)  (4)  (5)  (6)  (7)  (7)  (8)  (8)  (8)  (8)  (8)  (8	,		(viii)
Q. 4: Write short answers to any five (05) questions:  (4)  (5) والات کافی از ۱۵ الات کافی الزم الوالی الزم الزم الزم الزم الزم الزم الزم الزم	(viii)		
ن کوئی ہے پائی(3) موالات کے مختر جوابات گئے۔  (i)  (i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v)  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vi) Draw the molecular structure of ATP.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	, ,		
(i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) Differentiate between catabolism and anabolism.  (iii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vi) Draw the molecular structure of ATP.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  (i) (iii) What is Binomial Nomenclature. Give its rules			(4)
(i) Differentiate between catabolism and anabolism.  (ii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules			
رانا) الاوالم الرمال المساوات الله الله الله الله الله الله الله ال	<i>(</i> :)		(1)
(ii) How pH affects activity of enzymes. Give examples.  (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	(1)		/ii)
(iii) کی سیوار بہاڑ بیٹن ہے کیام او ہے۔ اس کی اہمیت تکسیل (iii) Define cellular respiration. Give its importance.  (iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	<b>/···</b> \		(11)
(iii) Define cellular respiration. Give its importance.  - روم الكوم الكوم بني ايخر ورس الكوم الكوم بني ايخر ورس الكوم الكوم بني ايخر ورس الكوم	(11)		/iii\
(iv) How alcohol is formed. Write its equation.  (v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	/····\		(111)
(iv) How alcohol is formed. Write its equation.  الله المعرف المعرب الم	(111)		
ر بی ایپڈووئر م سے بعد کو نے اللے وز پائے جاتے ہیں۔  (V) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  (Vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (Vii) Draw the molecular structure of ATP.  (Viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  (Viii) Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules			(iv)
(v) Which tissues are found inner to the endodermis of root?  المالي المراتي يون كون كون كون كون كون كون كون كون كون ك	(iv)	How alcohol is formed. Write its equation.	
(vi) Why transpiration is considered a necessary evil.  (vii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  (viii) Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules		جڑمیں اینڈوڈرمس کے بعد کونسے ٹشوز پائے جاتے ہیں۔	(v)
(vii) Why transpiration is considered a necessary evil.  الله الله الله الله الله الله الله الل	(v)	Which tissues are found inner to the endodermis of root?	
ر (vii) Draw the molecular structure of ATP.  ا کیٹو اور پیمینیوٹر انسپورٹ میں فرق بیان کریں۔  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  ا کوئی سے دو موالات کے جوابات کیسے۔  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules		ٹرانسپائزیشن کوضر وری برائی کیوں کہاجا تا ہے۔	(vi)
(vii) Draw the molecular structure of ATP.  (viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  (viii) Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	(vi)		
ر (Viii) ایکواور پیمیوٹر انپورٹ میں فرق بیان کریں۔  (Viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  فوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات کیسے۔  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules		اے ٹی پی کامالیکیو لرڈھا نچہ بنائیں۔	(vii)
(Viii) Differentiate between active and passive transport.  Subjective Type (Part II)  وف: کوئی سے دو موالات کے جوابات کھیے۔  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	(vii)	Draw the molecular structure of ATP.	
Subjective Type (Part II)  عند: کوئی سے دو موالات کے جوابات کلیے۔  Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules		ایکٹواور پیسیوٹرانسپورٹ میں فرق بیان کریں۔	(viii)
نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جو ابات کھیے۔ Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	(viii)	Differentiate between active and passive transport.	
Note: Attempt any two questions.  Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules		Subjective Type (Part II)	
Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules		کوئی سے دوسوالات کے جو ابات لکھیے۔	نوٹ:
Q. 5: (a) What is Binomial Nomenclature. Give its rules	Note:	: Attempt any two questions.	
	٦. ٥.		(الف)

(b) Give structure and function of chloroplast.

**Q. 6:** (a) Write sources and functions of proteins.

(b) How different models explain models of mechanism of enzyme action.

**Q. 7:** (a) Mention the different events causing the opening and closing of stomata.

(b) Describe development of embryo sac and pollen grain

